



حج کی تین اقسام

(1)

حج قرآن

(3)

حج افراد

(2)

حج تمتع

حج تمتع کرنے والے صرف عمرہ کے احرام کی نیت کرتے ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي
وَاعِنِّي عَلَيْهَا وَبَارِكْ لِي فِيهَا ط نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ
وَاحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى .

اے اللہ عزوجل! میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے (ادا کرنے میں) میری مدد فرما اور اسے میرے لئے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عزوجل کیلئے اس کا احرام باندھا۔

حج قرآن کرنے والے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي
وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي ط نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ
وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى .

اے اللہ عزوجل! میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، تو انھیں میرے لئے آسان کر دے اور انھیں میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی اور خالصتہً اللہ عزوجل کے لئے ان دونوں کا احرام باندھا۔

حج افراد والا صرف حج کی نیت کرتا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي
وَاعِنِّي عَلَيْهِ وَبَارِكْ لِي فِيهِ ط نَوَيْتُ الْحَجَّ
وَاحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى.

اے اللہ عزوجل! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو تو میرے لئے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لئے بابرکت فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عزوجل کیلئے اس کا احرام باندھا۔



حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟

مصر



★ ریاض

آفاق سے آنے والے میقات سے پہلے پہلے احرام باندھیں گے۔




حل میں رہنے والے حرم سے پہلے پہلے احرام باندھیں گے



حرم میں رہنے والے حرم سے حج کا حرام باندھیں گے

عمرہ کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟



① میقات سے آنے والا

میقات سے پہلے

عمرہ کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟



② حل میں رہنے والا

حرم سے پہلے


عمرہ کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟



③ مکہ مکرمہ میں رہنے والا

حدود حرم سے باہر جا کر





طوافِ زیارت 1

یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔

10 ذوالحجہ کی طلوع فجر کے بعد کسی بھی وقت طوافِ زیارت کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔

طوافِ زیارت کیلئے احرام ضروری نہیں۔

طوافِ زیارت کیلئے واجب یہ ہے کہ ایامِ نحر کے اندر اندر ہو، نہ کیا ہو تو بعد میں بھی کرنا ضروری ہے۔

طوافِ عمرہ 2

عمرہ میں چار چیزیں لازم ہیں، ان میں سے ایک طواف ہے۔

احرام	←	یہ شرط ہے
طواف	←	یہ رکن ہے
سعی	←	یہ واجب ہے
حلق و تقصیر	←	یہ احرام سے نکلنے کیلئے شرط ہے

یہ طواف حالتِ احرام میں ہوتا ہے۔

طوافِ قدوم 3

طوافِ قدوم بعض لوگوں کیلئے سنت مؤکدہ ہے، دیگر کیلئے نہیں

- X عمرہ پر جانے والے کیلئے
- X حج تمتع کرنے والے پر
- X غیر آفاقی حج افراد والے پر
- ✓ آفاق سے حج افراد کرنے والے پر
- ✓ حج قرآن کرنے والے پر

طوافِ قدوم
کس پر ہے؟

طوافِ قدوم 3

طوافِ قدوم کس وقت ادا کیا جائے گا؟

آفاقی حج افراد والامکہ مکرمہ پہنچ کر پہلا کام طوافِ قدوم کرے گا

حج قرآن والا پہلے عمرہ ادا کرے گا پھر طوافِ قدوم کرے گا

یہ طواف حالت احرام میں ہوتا ہے۔

طوافِ وداع 4

- ✗ عمرہ کرنے والے پر
 - ✗ حل اور مکہ میں رہنے والوں پر
 - ✔ میقات کے باہر سے کسی بھی قسم کا حج کرنے والے پر
- طوافِ وداع
کون کرے گا؟

اس طواف کا حالت احرام میں ہونا ضروری نہیں۔

نفلی طواف

5

آفاقی کیلئے مکہ مکرمہ میں نفلی طواف نفل نماز سے افضل ہے

اس طواف کیلئے احرام ضروری نہیں



طواف کے اہم مسائل

عذر نہ ہو تو پیدل طواف واجب ہے۔

×



ویہیل چیئر

×



سوار ہو کر

×



اسکوٹی

×



الیکٹرک گاڑی

طواف کے اہم مسائل

ہر قسم کے طواف میں غسل اور وضو سے ہونا واجب ہے۔

ہر قسم کے طواف میں ستر عورت واجب ہے۔

طواف کو دائیں طرف سے شروع کرنا واجب ہے۔

طواف کا حطیم کے باہر سے ہونا واجب ہے۔

طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔



احرام کیا ہے؟؟

نیت کرنا

1

2

تلبیہ یا اس کے قائم مقام کا پڑھنا

احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا

3

احرام کی پابندیاں تین قسم کی ہیں

1 وہ پابندیاں جن کا تعلق شرکار اور اس کے متعلقات سے ہے

2 وہ پابندیاں جن کا تعلق انسانی بدن کی ان چیزوں سے ہے

3 وہ پابندیاں جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا متعلقات سے ہے

بال

ناخن

لباس

خوشبو

زینت

شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل

(7) پاؤں یا بازو توڑنا

(8) اُس کا دودھ دوہنا

(9) اُس کا گوشت یا

(10) انڈے پکانا بھوننا

(11) بیچنا

(12) خریدنا

(13) کھانا

(1) جنگل کا شکار کرنا

(2) اُس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا

(3) یا کسی طرح بتانا

(4) بندوق یا بارود یا اُس کے ذبح کرنے کو چھری دینا

(5) اِس کے انڈے توڑنا

(6) پر اکھیڑنا،

بدن انسانی سے متعلق پابندیاں

وہ پابندیاں جن کا تعلق بالوں سے ہے

- (1) سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا
- (2) گوند وغیرہ سے بال جمانا
- (3) کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اُس کا احرام نہ ہو
- (4) جُوں مارنا
- (5) جوں پھینکنا
- (6) کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا
- (7) کپڑا اس کے مارنے کو دھونا
- (8) یادھوپ میں ڈالنا
- (9) بالوں میں پارہ وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا غرض جُوں کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔

بدن انسانی سے متعلق پابندیاں

وہ پابندیاں جن کا تعلق ناخن سے ہو

اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کترانا



بدن انسانی سے متعلق پابندیاں

وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو

- (1) مرد و عورت کا نقاب لگانا یا منہ بلا حائل چھپانا
- (2) مرد کے لئے سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا
- (3) بستہ یا کپڑے کی پتھی یا گٹھری سر پر رکھنا،
- (4) عمامہ باندھنا یا ٹوپی پہننا
- (5) مرد کا دستانے پہننا
- (6) مرد کا ایسے موزے یا جرابیں وغیرہ
- (7) سلا کپڑا پہننا
- (6) پہننا جو وسط قدم کو چھپائے

بدن انسانی سے متعلق پابندیاں

وہ پابندیاں جن کا تعلق خوشبو سے ہو

(1) خوشبو بالوں

(2) بدن

(3) کپڑوں میں لگانا

(4) خالص خوشبو مشک عنبر زعفران جاوتری لونگ الاچھی دارچینی زنجبیل وغیرہ کھانا

(5) ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک عنبر زعفران

بدن انسانی سے متعلق پابندیاں

وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو

(1) وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا کہ احرام میں یہ حرام ہے

(2) زیتون لگانا

(3) تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا

مکروہ ہے

(4) کنگا کرنا

مکروہ ہے

(5) سنگا کرنا

مکروہ ہے

(6) بدن کا میل چھڑانا



وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق
اور ان کے متعلقات سے ہو

(1) عورت سے صحبت

(2) عورت کے سامنے اس عمل کا نام لینا

(3) شہوت سے بوسہ یا مساس یا گلے لگنا

یا اس کی شرم گاہ کی طرف دیکھنا



حج سے پہلے کون سا حاجی مکہ مکرمہ میں کیا کرے گا؟

حج تمتع

عمرہ

احرام کھول کر حج سے پہلے چاہے تو مزید عمرے کرے یا نہ کرے

حج کا احرام باندھے تو سعی حج سے پہلے بھی کر سکتا ہے

حج سے پہلے کون سا حاجی مکہ مکرمہ میں کیا کرے گا؟

حج قرآن

عمرہ ادا کرے گا

طواف قدوم کرے گا

احرام حج کے بعد کھولے گا

حج کی سعی چاہے تو پہلے کر لے چاہے حج کے بعد

حج سے پہلے کون سا حاجی مکہ مکرمہ میں کیا کرے گا؟

حج افراد

آفاق سے آنے والے صرف طواف قدم کریں گے حلی اور نکی پر طواف قدم نہیں

حج کی سعی حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی



حج کی سعی

مختصر تشریح

ویسے تو سعی ہر عمرہ کرنے والا بھی کرتا ہے لیکن عمرہ سے ہٹ کر مستقل طور پر حج کی سعی ایک جداگانہ واجب ہے۔ حج کی واجب سعی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ حج سے پہلے کرنا ہو تو حج کا احرام باندھ کر کسی بھی نفلی طواف کے بعد ادا کی جا سکتی ہے اور اس طواف میں رمل اور اضطباع دونوں افعال کرنا ہوں گے۔ حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام میں نہ ہو اسی طرح حج کے بعد سعی کرنے پر یہ بھی مسنون ہے کہ حلق سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے بعد سعی کرے۔

حج کی سعی کے مختلف احکام

اضطباع ہوگا؟

رمل ہوگا؟

کون کرے گا؟

کب کرے گا؟

کن طوافوں کے بعد ہوگی؟

جی ہاں	جی ہاں	قارن، اور آفاقی مفرد	عرفات جانے سے پہلے	طوافِ قدوم کے بعد
جی ہاں	جی ہاں	متمتع اور غیر آفاقی مفرد	عرفات جانے سے پہلے	نقلی طواف کے بعد
جی نہیں	جی ہاں	تمام اقسام کے حاجی جنہوں نے حج سے پہلے نہ کی ہو اور احرام کھل چکا ہو	عرفات کے بعد	طوافِ زیارت کے بعد
جی ہاں	جی ہاں	تمام اقسام کے حاجی جنہوں نے حج سے پہلے نہ کی ہو اور احرام نہ کھلا ہو	عرفات کے بعد	طوافِ زیارت کے بعد



8 سے 13 ذوالحجۃ الحرام کی 16 اہم مصروفیات

08 ذوالحجۃ الحرام

منیٰ کا پہلا قیام

2 مصروفیت

سُنّتِ مؤکدہ

حکم

08 ذوالحجۃ الحرام

حج کا احرام باندھنا

1 مصروفیت

حج کیلئے شرط

حکم

09, 10 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی شب

مغرب و عشاء مزدلفہ میں
عشاء کے وقت میں پڑھنا

4 مصروفیت

یہ حج کا واجب ہے

حکم

09 ذوالحجۃ الحرام

وقوفِ عرفہ

3 مصروفیت

وقوفِ عرفہ حج کا رکنِ اعظم اور بنیادی فرض ہے۔

حکم

8 سے 13 ذوالحجۃ الحرام کی 16 اہم مصروفیات



8 سے 13 ذوالحجۃ الحرام کی 16 اہم مصروفیات

10 مصروفیت

10 ذوالحجۃ الحرام

حلق یا تقصیر

حکم

واجب حج، اور احرام کھولنے کے لئے شرط

9 مصروفیت

10 ذوالحجۃ الحرام

حج کی قربانی

حکم

تتمتہ اور قرآن والے کے لئے واجب۔ حج افراد والے کے لئے مستحب

12 مصروفیت

10 ذوالحجۃ الحرام

حج کی سعی

حکم

یہ حج کا واجب ہے

11 مصروفیت

10 ذوالحجۃ الحرام

طواف زیارت

حکم

حج کا دوسرا بڑا فرض

8 سے 13 ذوالحجۃ الحرام کی 16 اہم مصروفیات

12 ذوالحجۃ الحرام

تیسرے دن یعنی بارہ ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی

14 مصروفیت

یہ حج کا واجب ہے

حکم

11 ذوالحجۃ الحرام

دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی

13 مصروفیت

یہ حج کا واجب ہے

حکم

12 ذوالحجۃ الحرام

طوافِ وداع

16 مصروفیت

یہ حج کا واجب ہے

حکم

13 ذوالحجۃ الحرام

13 ذوالحجہ یعنی چوتھے دن تینوں جمرات کی رمی

15 مصروفیت

مستحب / مؤکد / واجب

حکم



مناسک حج کے اوقات کار

وقوفِ عرفہ

وقتِ انتہاء

اگلی پوری رات
فجر کا وقت
شروع ہونے تک

وقتِ ابتداء

9 ذوالحجہ کو
ظہر کا وقت شروع
ہونے سے

دن میں وقوف کرنا واجب
اور غروب تک ٹھہرنا واجب

مناسک حج کے اوقات کار

وقوفِ مزدلفہ

یومِ نحر 10 ذوالحجہ

وقتِ انتہاء

سورج طلوع ہونے تک

وقتِ آغاز

فجر کا وقت شروع ہونے سے

مناسک حج کے اوقات کار

پہلے دن کی رمی

10 ذوالحجہ

وقتِ انتہاء

وقتِ آغاز

اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے تک

فجر کا وقت شروع ہونے سے

مسنون
وقت

سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت
شروع ہونے تک

مکروہ
وقت

طلوع فجر تا طلوع شمس

مکروہ
وقت


غروب شمس سے فجر کا وقت شروع
ہونے سے پہلے تک

مباح
وقت

زوال کا وقت شروع
ہونے سے غروب تک

مناسک حج کے اوقات کار

پہلے دن کی رمی



مناسک حج کے اوقات کار

11,12 ذوالحجہ کی رمی

وقتِ انتہاء

اگلی رات فجر کا وقت شروع ہونے پر

وقتِ آغاز

ظہر کا وقت شروع ہونے سے

بعدِ غروب رمی کرنا مکروہ ہے

مناسک حج کے اوقات کار

13 ذوالحجہ کی رمی

وقتِ انتہاء

وقتِ آغاز

سورج غروب ہونے پر

فجر کا وقت شروع ہونے سے

صبح سے زوال کا وقت ختم ہونے تک مکروہ وقت ہے

مناسک حج کے اوقات کار

حج کی قربانی

وقت
آغاز

10 ذوالحجہ کی فجر کا
وقت ہونے سے

ترتیبی
وقت

رمی کے بعد کرنا
قارن اور متمتع کیلئے

مسنون
وقت

10 ذوالحجہ کو طلوع شمس
کے بعد کرنا

وجوبی
وقت

12 ذوالحجہ کے غروب
سے پہلے کرنا

مناسک حج کے اوقات کار

حلق و تقصیر

وقت
ابتداء

10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد

وجوبی
وقت

12 ذوالحجہ کی غروب سے پہلے تک

ترتیبی
وقت

قارن اور متمتع کیلئے رمی اور قربانی کے بعد

مفرد کیلئے رمی کے بعد کرنا

مناسک حج کے اوقات کار

طوافِ زیارت

افضل
وقت


10 ذوالحجہ کو رمی، قربانی،
حلق و تقصیر سے فارغ ہو کر

وقت
ابتداء

10 ذوالحجہ کی فجر کا
وقت شروع ہونے سے

وجوبی
وقت


12 ذوالحجہ کو غروب
ہونے سے پہلے تک



حج کا مکمل طریقہ اور تفصیل
جاننے کیلئے مطالعہ فرمائیں

download link

<https://www.daruliftahlesunnat.net/ShareBook/ur/57>



حج کے 27 واجبات ہیں۔
 کون سے ہیں؟ اور ان میں سے کوئی ایک
 ترک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟
 اس کے لئے یہ کتاب پڑھیے

download link

<https://www.daruliftaahlesunnat.net/ShareBook/ur/730>



مفتی صاحب کے پروگرام احکام حج،
احکام تجارت، احکام قرآن اور تجارتی مسائل
کے سیمینارز کے مکمل اور شارٹ کلپ دیکھنے کیلئے
آفیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔



<https://www.youtube.com/muftaliasghar>

روزمرہ کے مختلف اور اہم دینی امور سے
اپ ڈیٹ رہنے کے لئے مفتی صاحب کے
آفیشل فیس بک پیج کو لائیک کیجئے۔



<https://www.facebook.com/muftaliasghar>

